



## سوال

(98) مجلات میں عورتوں کی تصویریں دیکھنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اخبارات و مجلات میں عورتوں کی تصویروں کو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسلمان کے لئے عورتوں کے چہروں یا پردہ کے مقامات کو مجلات یا کسی اور جگہ دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسبابِ فتنہ میں سے ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر نظر کو جھکا لیا جائے، تاکہ ان شرعی دلائل کے عموم پر عمل ہو سکے، جن میں ان کی ممانعت ہے اور فتنے سے بھی محفوظ رہا جاسکے، نیز راستوں پر یا جہاں بھی عورتیں نظر آئیں، انہیں دیکھ کر نظر جھکا لینا واجب ہے۔

ہذا ما عنہم والیٰ علم بالصواب

## فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 84

محدث فتویٰ